

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS

GCE O Level

MARK SCHEME for the May/June 2006 question paper

3248 SECOND LANGUAGE URDU

3248/02

Paper 2

maximum raw mark 55

This mark scheme is published as an aid to teachers and students, to indicate the requirements of the examination. It shows the basis on which Examiners were initially instructed to award marks. It does not indicate the details of the discussions that took place at an Examiners' meeting before marking began. Any substantial changes to the mark scheme that arose from these discussions will be recorded in the published *Report on the Examination*.

All Examiners are instructed that alternative correct answers and unexpected approaches in candidates' scripts must be given marks that fairly reflect the relevant knowledge and skills demonstrated.

Mark schemes must be read in conjunction with the question papers and the *Report on the Examination*.

- CIE will not enter into discussion or correspondence in connection with these mark schemes.

CIE is publishing the mark schemes for the May/June 2006 question papers for most IGCSE and GCE Advanced Level and Advanced Subsidiary Level syllabuses and some Ordinary Level syllabuses.



Page 1	Mark Scheme	Syllabus	Paper
	GCE O Level – May/June 2006	3248	02

- [Total: 3 marks] One mark for each sentence, clearly defining the meanings of words. 1
- [Total: 2 marks] One mark for each sentence, clearly distinguishing the meaning. 2

Sentence transformation

Marks	Questions
1	3
1	4
1	5
1	6
1	7

صحت مندی کی علامت اچھی غذا ہے -
 اشرف سے علی نے کہا کہ وہ چور ہے -
 باجی نسیم کے دعوتوں بیٹے پر انوار کو انہیں
 سیرو تفریح کے لئے لے کر جاتے ہیں -
 وہ دن ہمارے سفر کا اہم ترین تھا جب ہم
 دیوار چین دیکھنے گئے -
 اپنی خیریت سے میں آپ کو اسلام آباد پہنچ
 کر مطلع کروں گی -

[Total: 5 marks]

Close passage

Questions

- 8
 9
 10
 11
 12

Summary points

Questions

- 13
- (i) خوشامد پند جموٹی تعریف سے خوش ہوتا ہے - کمزور کردار کا حامل وعیزہ
- (ii) خوشامدی چرب زبان، عادت سے مجبور، غلط مقاصد کا استعمال - غلط بیانی وغیرہ
- (iii) صحیح تعریف حوصلہ بلند کرتی ہے، اچھائی کی ترغیب دیتی ہے وعیزہ
- (iv) نفعانات کم ظرفی اور نالائقی پیدا کرتی ہے - حفذا کی حق تلفی کرتی ہے - اصلاح کی صلاحیت کم کرتی ہے وعیزہ
- (v) اچھا دوست جو اچھائیوں اور برائیوں دونوں سے آپلو آگاہ کرے تاکہ برائیوں کی اصلاح ہو سکے -

Page 2	Mark Scheme	Syllabus	Paper
	GCE O Level – May/June 2006	3248	02

Comprehension passage A

	Questions
گیا، چھویں صدی میں وجود میں آئی۔ اُس دور میں لاہور اسلامی تہذیب اور تجارت کا مرکز بنا	14
مغلیہ دور میں لاہور پھر سے ثقافت اور علوم و لطیفہ کا مرکز بنا۔ ادب کو فروغ ملا۔ تجارت اور صنعت و حرفت میں ترقی ہوئی۔	15
ایشیا کی خوبصورت ترین عمارت ہیں۔ مسجدیں فنکاری کا نمونہ ہیں۔ شاہ جہاں آبادی کی خوبصورتی اور منظر۔ سیاحوں کی دلچسپی و عزم	16
سوکھ بہار کی آمد کی خبر دینا ہے۔ شہنشاہ اُڑتے اور پیسے لڑاتے ہیں۔	17
صغیری باغ میں راجہ رنجیت سنگھ چار بیویوں کی راکھ سمیت دفن ہے۔	18
مصنف کے مطابق لاہور زندگی کی رنگینیوں سے بھرپور ہے اور ہر شخص کی تفریح و جمع کا سامان پیدا کرتا ہے۔	19

Comprehension passage B

	Questions
والدین سے ورثہ میں خود خال اور جسمانی ہیبت ملتی ہے۔ کھانے کی مقدار اور ورزش بھی اثر انداز ہوتی ہے۔	20
میٹابولزم غذا کو توانائی میں تبدیل کرنے کا نظام ہے۔ جن کے فعلیے تیزی سے کام کرتے ہیں وہ لوگ دہلے رہتے ہیں اور جن کے سست ہوتے ہیں ان کی توانائی چربی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ سڑے ہو جاتے ہیں۔	21
دراز قدم، دہلے، پرکشش خود خال اور مخصوص شخصیت کے حامل ہوں۔	22
اپنی یکم کو در کرنے کے لئے غلط اشیاء کا استعمال کرتے ہیں جو جلد اور صحت کے لئے نقصان دہ ہیں۔	23
پریشان نہ ہوں۔ ورزش کریں اور اچھی غذا لیں۔ جوانی بڑا ت خود خوبصورتی ہے۔	24